

فیضانِ اہلسنت جلد 121

اِنَّا مَلِكُ اَحْمَدِ رَضَا

اور

اصلاح معاشرہ



مولانا محمد قمر الزماں مصباحی

نامہ جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی۔

امام احمد رضا

اور

اصلاح معاشرہ

از

حضرت علامہ مولانا

محمد قمر الزماں مصباحی صاحب مدظلہ

معلم جامعہ قادریہ کوئٹہ، پونہ

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت، پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، کراچی۔

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

ہفت واری اجتماع:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے زیر اہتمام ہر ہیر کو بعد نماز عشاء تقریباً بجے رات کو نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر و مختلف علمائے اہلسنت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسلہ اشاعت:-

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس سے وقت بہ وقت مقتدر علمائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ نوازش مندرجہ اوقات اور اس سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظرہ:-

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں یہاں قرآنی پالہ حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی لی ۱۵ میں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

کتب و کیسٹ لائبریری:-

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں، طالعے لیے اور کیسٹیں سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔



تاجدار برکاتیت رئیس الخطباء سید العلماء حضرت علامہ سید آل مصطفیٰ
علیہ الرحمہ مارہروی

تاج شریعت سرلپارکت احسن العلماء حضرت علامہ سید مصطفیٰ حیدر
حسن علیہ الرحمہ مارہروی
کی بارگاہ پر عظمت میں حیات کا سارا سرمایہ پنچا اور ہے۔ اس جذبے کی
ساتھ کہ

اگر یہ نذر عقیدت قبول ہو جائے
تو نازِ عشق کی دولت وصول ہو جائے

سگ استائہ برکات

محمد قمر الزماں مصباحی

ہم صمیم قلب سے دعاء کرتے ہیں کہ خدائے غافر و نعیم محترم الحاج ابراہیم صاحب رضوی
شیرور کے والدین کریمین کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی
رحمتوں کے پھول برسائے۔ آمین

ابر رحمت ان کی مرقد پر گہرباری کرے

دعاء گو: محمد قمر الزماں مصباحی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ :

حضرت علامہ مولانا :

محمد قمر الزماں مصباحی صاحب مدظلہ

۶۴ صفحات :

۲۰۰۰ :

۱۲۱ :

جنوری ۲۰۰۲ء :

ملنے کے پتے:

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان،

نور مسجد کاغذی بازار، کراچی۔ 2439799

مدنی مدرسہ ضیاء القرآن

صدیق اکبر روڈ گھاس گنجی موسیٰ لین، کراچی۔

ابتدائیہ

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

زیر نظر کتابچہ "جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان" کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ

مفت اشاعت کی ۱۲۱ ویں کڑی ہے۔ جو کہ مولانا قمر الزماں مصباحی کی تحریر ہے جس میں انہوں نے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فتاویٰ و اقوال کو مرتب کیا ہے۔ امید ہے کہ جمعیت کی

سابقہ کاوشوں کی طرح یہ کاوش بھی ان شاء اللہ تعالیٰ قارئین کرام میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھی

جائے گی۔

نگاہِ آوازیں

امام احمد رضا قدس سرہ ایک بالغ نظر فقیہ نکتہ رس مصنف، نابغہ روزگار محقق، بلند پایہ محدث و مفسر اور دنیاۓ سعیت کے اس مجدد اعظم کا نام ہے جسے قدرت نے روز ازل میں ہی اپنے دین حنیف کی حفاظت، مذہب حق کی صیانت، شریعت مقدسہ کی بقاء اور ایمانی سوز و حرارت کے تحفظ کیلئے منتخب فرمایا تھا۔

خانقاہ سے لیکر درس گاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمولات اور مذہبی تقدس کی جو بہار ہے اسی مرد قلندر کی رہن منت ہے اور آج ایمانی حرارت و پاکیزگی کی ساری لذتیں اسی روحانی مقتداء کی آہ صبح گاہی اور نالہ شبی کا نتیجہ ہے۔

یہ ایک سچائی ہے کہ مجدد اپنے وقت کی ضرورت اور اپنے عصر کی پکار ہوتا ہے جس سے لوگ کتاب فیض کرتے ہیں۔ سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہابی تحریک کی ساری انرجی ایمان و عقیدے کی روح کو فنا کرنے پر صرف ہو رہی ہے۔ بد عقیدگی کے کمرے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تنقیص الوہیت اور اہانت رسالت سے مملو تحریروں کو دیکھ کر آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ جسم کے روٹنے کھڑے ہو گئے۔ دل خون کے آنسو رونے لگا کرب کا یہ عالم کہ کسی پہلو قرار

نہیں اور قرار ملتا بھی کیسے جس کے نزدیک ایمان کی آواز یہ ہے ع

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا

سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے

نذرِ عقیدت

خانوادہ برکات کے سچے وارث و جانشین مخدوم العلماء حضرت علامہ سید حسنین میاں صاحب قبلہ نظمیں مارہروی

قبض والا درجست شہزادہ احسن العلماء حضرت ڈاکٹر سید امین میاں صاحب قبلہ مارہرہ شریف

جانشین مفتی اعظم تاج الاسلام حضرت علامہ اختر رضا خاں صاحب قبلہ ازہری بریلی شریف جن کی بارگاہ کی جاروب کشی انعام خسروی ہے۔

سگ بارگاہ برکات

محمد قمر الزماں مصباحی

تم نہیں بچتے رضا سارا تو سامان گیا
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا
جس کو ہو درد کا مزہ نازدوا اٹھائے کیوں

مسئلہ صرف اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کا نہیں تھا اگر صرف اپنی بات ہوتی تو جس معطر فضا اور پاکیزہ ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس کے کنج خمولی میں بیٹھ کر صرف سجدہ کرتے جب بھی بد عقیدگی کے ناپاک سائے قریب آنے سے لرز جاتے۔ مگر بات پوری ملت کی تھی معاشرے اور سماج کی تھی۔ پوری انسانیت کی تھی۔ اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی۔ قوم کے نو نملوں اور مستقبل کی ان تازہ فصلوں کی تھی جسے لہلہانے سے پہلے بادِ سموم مر جھانہ دیں، چنانچہ بصیرت و بصارت حکمت و دانائی۔ عشق و یقین اخلاص و ایثار، ایمان و عرفان اور عزم و حوصلے کی بھرپور توانائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں سے لیس ہو کر برکاتی کچھار کے اس شیر نے عصری نقاضوں کے چیلنج کو قبول کیا شرارِ بولہبی کی تیز آندھیوں میں چراغِ مصطفویٰ کو روشن کیا، ملت کی سچی رہنمائی فرمائی۔ شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فرما کر اسلام کے درخشاں اصول بتائے، بدعات و خرافات کے تاج محل پر چھایہ ماری کی، روحوں کی طہارت فرمائی، قلم کی آوارگی کو لگام دیا، غلط افکار و نظریات پر پھرے بٹھائے آزادی فکر کو ممیز دی، ایقان و عرفان کو صبحِ مسرت کا اجالا بٹھا۔ دلوں کو عشق رسالت کا نور و سرور عطا کیا۔ فتنہ اندر کا ہویا باہر کا سب کو دبایا۔ ہر ایک کا محاسبہ کیا۔ ہر ایک کی خیریت پوچھی۔ اور اصلاح و تذکیر، دعوت الی اللہ، تبلیغ و ارشاد اور ابلاغ حق کی راہ میں مسلسل چوٹ کھاتے رہے۔ آگے بڑھتے رہے حوصلوں میں تازگی آتی

رہی عشق نکھر تار ہا اور محبت رسول کے جلوؤں میں گم ہوتے رہے۔ نہ تنہائی کا شکوہ، نہ اکیلے پن کا احساس بلکہ ہر قدم پر ثبات و استقلال کا قلعہ تعمیر کرتے جا رہے تھے اور نقوشِ پاکِ ہر تیور پکار کر کہہ رہا تھا۔ ع

میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر
لوگ ساتھ آگئے اور کارواں بن گیا

یہ آپ کی داعیانہ قوت، قائدانہ عظمت و شوکت اور پاکیزہ قیادت کا ہی ثمرہ ہے کہ آج دلوں کی فصیل پر عظمتِ نبوت کے پرچم لہرا رہے ہیں افکار و نظریات کے صحرا میں محبت رسول کے گلاب مسکرا رہے ہیں، خانقاہوں کی پاکیزگی، دارالافتاء کا تقدس اور دانش کدوں کی شوکتیں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے انھیں احسانات کو دیکھ کر پاسانِ ملت خلیفہ مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں۔

اے وقت کے دانشور! غور کرو امام احمد رضا کا ایک ایسا وجود مسعود جو تنہا لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انھیں خراجِ عقیدت پیش کرنے کیلئے اگر زبان و قلم کا پورا سرمایہ اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے چند لمحات کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ناکافی ہوگا۔ عقل حیران ہے کہ زبان و قلم کیلئے نیاز مند یوں کی بھیک کہاں سے مانگی جائے اور کس خزانہ عامرہ سے گوہرِ گہوار چن چن کر ان کے قدموں پر نچھاور کئے جائیں جس سے امام احمد رضا جیسی قد آور شخصیت کی دینی و قلمی خدمات کا حق ادا کیا جاسکے۔

(دیوبند کی خانہ تلاشی صفحہ ۱۲)

یہ اس فاضل کا تاثر ہے جس کے قلمی اور لسانی خدمات کی ضیاء شیوں سے علاقے کا علاقہ روشن ہے۔ مگر براہو عصیت کا جو علم و ادب سے کورے اور بالکل تہی دست ہیں وہ اس آفتاب فضل و کمال سے آنکھیں ملانے چلے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام احمد رضا قدس سرہ کی خدمات کو سراہتے ان کی بارگاہ عبقری میں سجدہ نیاز لٹاتے، ان کے قلمی سرمایہ سے دلوں کی تجوری کو بھرتے۔ ان کے علم و شعور کے گل و لالہ سے قلب و نظر کو تازگی بخشتے ان کی پرکشش شخصیت کے جلوؤں سے دل و نگاہ کی وادی کو سجاتے اور اسلامی نظریات کو پیغام رضا کی شکل میں عام و تمام کرتے لیکن یہ تاریخ کے ساتھ کتنا بھیا تک مذاق ہے کہ عمل کی تطہیر، فکر کی تقدیس اور عشق مصطفیٰ کی تفسیر میں جس کی حیات کا لمحہ لمحو مصروف ہو۔ عمر بھر جس نے سماج میں جنم لینے والی برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم سے کام لیا ہو اور جس کے قلم کی بوند بوند خیر و صلاح اور نجات و فلاح کا ابر کرم بن کر دلوں کی بجز زمین پر برستی رہی اور سیرانی کے بعد قلب و جگر کی کشت ویراں پر اتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی خشیت کے نہ جانے کتنے شاداب پھول مسکرانے لگے اور آج اسی پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بدعتی فرقہ کا بانی تھا۔ مگر کوئی درد مند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضا میں توحید کا چراغ جلانا، توہین نبوت کے پر آشوب ماحول میں محبت رسول کی شمعیں روشن کرنا اور بدعات کی آندھی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قدیلیں فروزاں کرنا یہی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مفلسی، ذہنی قلاشی اور یتیم العقلمی پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔

کہتے ہیں کہ تاریخ حقیقت کا ایک بے غبار آئینہ ہوا کرتی ہے جو گردش ایام کا اثر قبول کئے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ اس نادر روزگار شخصیت کے ساتھ بھی کچھ

ایسا ہی ہوا تھا انھیں نے جس قدر حقائق پر پردے ڈالے، الزامات کا نشانہ بنانا چاہا اور پر وقار ذات کو مجروح کرنے کی جتنی سازشیں رچی گئیں حقیقتیں طشت ازبام ہوتی چلی گئیں، افکار کی خوشبو پھیلتی رہی، تابعدہ خیالات کی کرنوں سے دلوں کے آفاق جھمگانے لگے اور آج اس عالمی شخصیت پر تحقیق و ریسرچ کرنے والے اسکالرز اور محققین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں جس موضوع پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھتے ہیں تلاش و جستجو اور لوح و قلم کی ساری پونجی لٹا دینے کے بعد انھیں یہی احساس ہوتا ہے کہ فضل و کمال، علم و فن اور فکر و دانائی کے اس بحر بیکراں کا نہ کوئی پاٹ ہے نہ دھار اور پھر انھیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک بیکر میں علم و شعور کی اس قدر سمائی یہ کسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ تائید ربانی اور فیضان الہی کا نتیجہ ہے۔

ایک داعی اس فلسفہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے جہاں سے خیر و شر کے چٹھے اہلتے ہیں وہ انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جراثیم سے دل پاک و صاف ہو گیا تو دوسرے اعضاء کو سنوارنا بہت آسان بات ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ قلب کی پاکیزگی پر زیادہ زور دیتے ہیں، آئیے اس پرسوز مصلح کی آواز کو آپ بھی کان لگا کر سنئے۔

قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ معاصی اور کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے اب اس میں حق کو دیکھنے سمجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہ جاتی مگر ابھی حق سننے کی استعداد باقی رہتی ہے۔

(ملفوظ شریف)

مندرجہ بالا تحریر کو پڑھنے کے بعد اس مخلص داعی کے اضطراب اور درد و کسک

کو آپ بھی محسوس کیجئے کرب کا یہی وہ داعیہ تھا جو امام احمد رضا قدس سرہ کو عمر بھر قلمی جہاد کرنے پر مجبور کرتا رہا کیوں کہ ایک سچے عاشق رسول، پر سوز قائد اور مذہبی رہنما کی نگاہ میں ہر لمحہ اسلامی احکام شرعی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشادات و فرمودات کے حسین جلوے ہوتے ہیں جس کے اجالے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔

”امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ“ کے حوالے سے ایک مختصر رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تعصب و تنگ نظری کی سطح سے اوپر اٹھ کر اس کا مطالعہ کیجئے اور قبول حق کی کوئی ہلکی چنگاری بھی ذہن و فکر کے کسی گوشے میں سلگ رہی ہو تو انصاف و دیانت کا خون کئے بغیر جواب دیجئے کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے بدعات اور غیر شرعی رسومات کو فروغ دیا ہے یا اس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔

قاطع جدیدیت حضرت علامہ مفتی محمد امان الرب صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نجم القادری صاحب، حضرت علامہ مفتی لیاظ احمد مصباحی، حضرت علامہ مفتی منظور احمد مصباحی، حضرت علامہ محمد عیسیٰ رضوی مصباحی، حضرت مولانا رحمت اللہ صدیقی ان اہم شخصیات کی نیک تمنائیں اور پر خلوص دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جب بھی کٹھن لمحات آتے ہیں تو مذکورہ حضرات ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ رب کائنات سب کو دارین میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین

محمد قمر الزماں مصباحی مظفر پوری

خادم جامعہ قادریہ کوئٹہ، پونہ

تقدیم

حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب نجم القادری
ریسرچ اسکالر میسوریونیورسٹی، میسور، کرناٹک

کیا حال ہوتا کشتی ملت کا اگر امام احمد رضا نے بدعت اس کی پاسبانی نہ فرمائی ہوتی، کیا حال ہوتا عقیدہ و عقیدت کے گل و غنچہ کا اگر بدعات کی بادِ سموم کے سامنے آپ نسیم سحری نہ بن گئے ہوتے، اور کیا حال ہوتا ایمان و عمل کے درجے بہا کا اگر لٹیروں کے ظاہری و خفی حملے سے آپ نے لوگوں کو متنبہ نہ کیا ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں تو بالکل حق بجانب ہو گا کہ دین و ضروریات دین پر چوکھی حملے ہو رہے تھے تنہا امام احمد رضا نجمی علوم و فنون کے خزانہ و اسلحہ سے لیس ہو کر ان تمام طوفانِ جفا کے سامنے مددِ سکندری بنے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عہدِ رضا میں علم و فکر کی بزمِ سولی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ خانقاہیں حق، ہو کی صدائے لاہوتی سے خالی تھی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسلام کے جیالے اور جانثار فرزندوں سے اسلام کی گود غیر بگاڑ تھی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام و ایمان کے گلشن کو تاراج کرنے کی جب صیہونی اسکیمیں اپنے شباب پر تھیں، عقیدہ و عقیدت کے خزانے پر جب شبِ خون مارے جا رہے تھے، عمل کے نام پر ایمان جب لوٹا جا رہا تھا تو اس کالی رات اور گھنگھور فضا میں وہ کون تھا جس نے جان جو کھم ٹھنڈا کر اور سر ہتھیلی پر لے کر وقت کی طاغوتی طاقتوں کو لٹکارتے ہوئے کہا تھا۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں

تو تیرا تما ہم جگر آزمائیں

برصغیر کی پوری ۱۹ ویں صدی چھان ڈالئے صرف اور صرف ایک نوری چہرہ نظر آتا ہے جسے سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں۔ ہاں اہل علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، خانقاہوں نے آپ کی حمایت کی ہے، سجادہ نشینوں نے تائید کے پھول برسائے ہیں، اسلام کے جیالے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن بھرا ہے مگر ہر محاذ پر جو مقدمۃ الجیش کا تاج زریں سجائے کبھی قلب لشکر، کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر جھپٹ جھپٹ کر وار کر رہا تھا وہ صرف بریلی کا تاجدار ہے۔۔۔۔۔ آپ کی زندگی کی سب سے عظیم خوبی جو آپ کے معاصرین پر آپ کو مشرف و ممتاز کرتی ہے وہ یہی آپ کی جوانمردی و حق گوئی و بیباکی ہے۔۔

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روہا ہی

آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ شمشیر شریعت کی زد پر پڑنے والا کون ہے بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ عقیدہ و عمل میں بدعات و خرافات کا حامل کون ہے، اپنا ہویا، یگانہ اسی نقطہ نظر سے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق یہ ہے کہ خوب لی ہے، ہم تو ان کی نگارشات و ملفوظات میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی صداقت و ممارست پر ناز تھا، ارد گرد تلامذہ کا جم غفیر تھا، حلقہ ارادت و عقیدت بھی وسیع تھا لیکن خلاف شرع عمل و حرکت پر حضرت رضا بریلوی نے ان کی پرواہ نہیں کی، ادب سے ٹوکا، محبت سے متنبہ کیا، پیار اور نرمی سے سمجھایا، مان گئے تو ٹھیک نہ ورنہ شریعت مطہرہ کا دو ٹوک

فیصلہ سنا دیا۔ کوئی خانقاہ اگر بدعات و منکرات میں پھنس گئی ہے تو آپ نے اسے بھی ہدایت کی، عقیدت میں اگر کہیں غلو اور فکر و عمل میں کجی پائی جا رہی ہے تو وہاں بھی خبردار کیا، روش حیات اگر غلط ڈگر پر چل پڑی ہے تو آپ وہاں بھی چراغ حق و ہدایت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی شومئی قسمت سے تنقیص الوہیت اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے تو پھر آپ کا ہر وارر رضا کے نیزے کی مار کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اس وقت آپ کا قلم، قلم نہیں برقی خاطر نظر آتا ہے۔ غرض کہ امام احمد رضا صرف عمل کے داعی و مصلح نہیں بلکہ عقیدہ و عمل دونوں کے آپ محسن و مصلح نظر آتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاحی تحریک ہے کہ عمل کا جسم ظاہری زینت و سنگھار سے آراستہ کر دیا جائے اور اس میں ایمان کی روح نہ پھونکی جائے۔ امام احمد رضا اس نصب العین سے خوبی واقف تھے انہوں نے جسم و جان دونوں کی آراستگی و مشاطگی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ جب بھی امام احمد رضا کی نسبت سے اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ معاشرہ کی اصلاح صرف عمل سے نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ اسلامی تصور ہے۔ ایک پاکیزہ، صالح اور با مقصد معاشرہ کی تشکیل کیلئے ضروری ہے اس کے سنگ بنیاد میں ہی ایمان و عقیدہ کی روح رچا بسادی جائے پھر عمل کی دیوار چنی جائے، اسلام صرف عمل کا نام نہیں بلکہ ایمان و عمل دونوں کے حسین مجموعہ کا نام ہے۔

زیر نظر کتاب عزیز گرامی مولانا محمد قمر الزماں مصباحی کے زرنگار قلم کا حسین شاہکار ہے، بس پڑھتے جائیے جھومتے جائیے۔ عزیز موصوف نے مختصر اوراق پر جامع اور بسیط مضامین کو سمیٹنے کی بڑی محمود کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت

کا انہیں دارین میں صلہ و ثمرہ عطا فرمائے۔ (آمین) تاہم عقیدہ کی بحث کو شاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ سنجی کے پیش نظر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس تعلق سے دو چار گوشے ہدیہ ناظرین ہیں تاکہ قاری کو کسی جہت سے کتاب میں تشنگی کا احساس نہ ہو۔

(۱) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوگوں کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آج کا انسان بڑا بے باک ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ جسارت جا پہنچی ہے کہ اگر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض عاقبت نااندیش لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ”ہم خدا اور رسول کو نہیں جانتے“ ایسا ہی سوال جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ہوا تھا تو آپ کے قلم کا تیور دیکھئے: ”وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا و رسول کو نہیں جانتے یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ اس شخص پر فرض ہے کہ توبہ کرے اور از سر نو مسلمان ہو اور اگر عورت رکھتا ہے تو نئے سرے سے نکاح چاہیے۔“

(فتاویٰ رضویہ۔ جلد دہم)

(۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول ﷺ کی شان میں ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی گریزاں تھی جو دشمنان خدا اور رسول ﷺ نے استعمال کیا ہو اور وہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو۔ لفظ صاحب کے تعلق سے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: ”جائز ہے حدیث میں ہے اللھم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی المال والاصول والولد اور سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا ماضل صاحبکم وما غوی۔۔۔ لیکن اللہ صاحب کہنا اسماعیل دہلوی کا محاورہ

ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے صاحب ہیں نام پاک کے ساتھ صاحب کہنا آریہ و پادریوں کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہیے۔ (الملفوظ۔ سوم)

(۳) آج کل جاہل صوفیوں کا جیسے ہیضہ آیا ہوا ہے، نیلا پیلا رنگ چڑھا لیا بس وہ قید و بند شریعت سے آزاد ہو گئے جو جی میں آیا کیا جو منہ میں آیا بک دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیلئے لفظ ”عشق“ کا استعمال دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ کبھی اس کے لغوی و اصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علماء کی قرأت و رفاقت ہی ہے کہ ان کی اصلاح ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور ﷺ کو اس کا معشوق کہنے کے تعلق سے جب امام احمد رضا سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ: ”ناجائز ہے کہ معنی عشق اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعی ہے ایسا لفظ بے ورود ثابت شرعی حضرت عزت کی شان میں لانا ممنوع قطعی۔ (فتاویٰ رضویہ۔ جلد دہم)

(۴) بد قسمتی سے آج کچھ لوگ حضور عالم ماکان و مایکون صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں بھی غفل و قال سے نہیں چوکتے حالانکہ علمائے اہل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات کے دریا بہا دیئے ہیں۔ جب علمائے اہل سنت کی وزنی دلیلیں کسی طرح نہیں اٹھتیں تو یہ بے تکا الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ علم مصطفیٰ اور علم خدا کو مساوی قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا موقف کیا ہے امام اہلسنت کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں: ”علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے، اس کے غیر کیلئے محال ہے جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کیلئے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔“ (خالص الاعتقاد)

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی، وہ واجب یہ

ممکن، وہ قدیم یہ حادثہ، وہ نامخلوق یہ مخلوق، وہ نامقدور یہ مقدور، وہ ضروری البقاء یہ جائز الفناء، وہ ممتنع التغير یہ ممکن التبدل۔ (انباء المصطفیٰ)

علم خدا اور علم مصطفیٰ میں برابری کے تصورات والزامات کے تار و پود بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”برابری تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کرورویں کو کرور سمندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ اور وہ غیر متناہی، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔“ (الملفوظ۔ اول)

۵) اسلام اور نظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہو جاتی ہے جب کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ ”کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے“ کیا ظلم ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول ﷺ اور پیارے دین اور ضروریات دین کے بارے میں کچھ بھی لکھے اور بچے ”معاذ اللہ“ اس مذموم نظریے سے آج دین کا جتنا نقصان ہو رہا ہے شاید ہی کسی دور میں ہوا ہو۔ اسی ظالم نظریے نے ظالم و مظلوم، حق و باطل، نور و ظلمت کو آج ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے۔ معاشرہ ایسا مخلوط ہو گیا ہے کہ اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن، وفادار و غدار کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ اگر یہ چھوٹ دیدی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیا اسلام گڑھ کر رکھ دیں گے۔ اسلام مذہب حق ہے اور حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کا داعی۔ اسلام کی پالیسی بالکل صاف اور روشن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تاریکی اور ژولیدگی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بکے بے دین، بدعتی ہو جائیں اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور ہے اور وہ لوگ

جو ابھی شک و ریب میں مبتلا ہیں، مذہب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کا نظریہ اور ہے۔ جو لوگ اپنے قول و فعل سے جس خانے میں چلے جائیں ان کی اصلاح اسی علامت اور زاویے سے ہوگی، ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا کے قلم سے یہ ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنفقیں واغلظ علیہم۔ اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کر، یہ انہیں حکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو بے شک بڑے خلق پر ہے۔“ (الملفوظ) اور جو لوگ ابھی نیم پختہ ہوں، مذہب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی نرم گفتاری کا منظر ملاحظہ ہو: ”دیکھو نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے۔ جن لوگوں کے عقائد مذہب ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔“ (الملفوظ)

آج جو لوگ اپنے آپ کو وسیع النظر کہتے ہیں اور بڑی فیاضی سے وسعت نظری کی دعوت دیتے پھرتے ہیں وہ قرآنی اصول کی روشنی میں اپنی روشن خیالی کو پرکھیں۔ اخلاق یہ نہیں کہ آدمی کتاب و سنت سے بیگانہ محض ہو جائے۔ اخلاق یہ نہیں کہ دین کے تقاضے کو پامال کر کے کسی کی خوشنودی محال کی جائے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ دینی تقاضوں کی کماحقہ رعایت کے ساتھ کسی سے دوستی و نرمی اور نسبت و تعلق رکھا جائے۔ دین کے تقاضوں میں بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس رضا کی تحصیل و تکمیل میں چاہے کوئی چھوٹے پرواہ نہ کی جائے۔ آپ خود سوچیے اگر احباب و اصدقاء کی رعایت میں آنجینہ شریعت کو ضدمہ

کلمہ تحسین

ادیب شہیر حضرت مولینا رحمت اللہ صاحب صدیقی
مدیر اعلیٰ پیغام رضا۔ پوکھیرا۔ بہار

جہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چراغ نہیں جلتا
وہاں تاریکی رہا کرتی ہے یہ تاریکی فکر میں بھی ہوتی ہے عمل میں بھی ہوتی ہے اور
عقیدت میں بھی۔ امام احمد رضا عشق رسول ﷺ کی کس منزل پر فائز ہیں اس کا
سراغ اب تک کوئی نہ پاسکا ہے اور علوم و فنون کے کتنے شہستانوں پر ان کا قبضہ ہے اس
کا سہی اندازہ ایک کسی کو نہ مل سکا ہے۔ آپ کی ذات ہر اعتبار سے اس لائق ہے کہ
جماعتی طور پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و
تصحیفات کو ادنیٰ سے بیکرا اعلیٰ درجہ ہوں تک نصاب میں شامل کیا جائے۔ آپ کے
نام پر جو بے حد تحقیقی، سائنسی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے اور دنیا کی مختلف
زبانوں میں آپ کے افکار و نظریات منتقل کیے جائیں تو تاریکیاں دور ہوں گی اور عشق
و ایمان کا نور تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔

ہمارے نوجوان علماء میں کام کرنے کا بے پناہ جذبہ موجود ہے اور وہ دینی و ملی
سرگرمیوں میں پیش پیش رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی پشت پناہی نہیں کرتا اور ان
کے درد کو کوئی محسوس نہیں کرتا، بے یقینی اور بے اعتمادی کے سائے ہر طرف سنگر
انداز ہیں قوم کے ایمان و عقیدے پر شب خون مارا جا رہا ہے، بد عقیدگی کے جراثیم
ہر روح میں سرایت کرنے کیلئے پر تول رہے ہیں۔ خرمن عشق و محبت میں چنگاری

پہنچ جائے، اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو جائیں تو کس کام کی یہ دوستی۔ دوستی
اور دشمنی کا جو معیار شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس کی پاسداری یہ مسلم و مومن کے
لئے ہمہ دم لازمی ہے۔ امام احمد رضا میں یہ وصف اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ ہر
جگہ نظر آتا ہے۔ آپ کا مسح نظر ہمیشہ یہ رہا کہ حق گوئی و بیباکی کا دامن نہ چھوٹے،
اچھی اور سچی بات ہر کسی کو دو ٹوک بتائی جائے، چاہے وہ اپنا ہویا بیگانہ۔ آپ کی حیات کا
ہر لمحہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی پوری توانائی و جگر کاوی اور اولوالعزمی و بلند
ہمتی سے خدا و مصطفیٰ کی خوشنودی کے لئے اس فریضہ کو انجام دیا۔ اپنے منصب کا جتنا
وقار آپ نے سمجھا اور بلند رکھا ہے آپ کے عہد زریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو،
رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کا شیریں جام نوش فرمالیا
، دیکھئے کتنی پیاری التجا ہے جو انہوں نے کی ہے۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے
ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو روں درود

ڈال دی گئی ہے کسی وقت بھی ہو کا ایک معمولی جھوٹکا اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے ایسے ماحول میں قوم کو صحیح سمت سفر عطا کرنے والے افراد کی سخت ضرورت ہے جو قوم کے ایمان و عقیدے کے چمن کو بادل صرصر کے تند جھونکوں سے بچاسکیں۔

امام احمد رضا نے قوم و ملت کی ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کی ہے اور یقیناً ان کے رہنما اصول کامیاب زندگی کے ضامن ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سہل انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر خاص و عام اپنے ظرف کے مطابق استفادہ کر سکے۔ اسی کی ایک کڑی ”امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ“ ہے۔

فاضل گرامی حضرت مولانا قمر الزماں صاحب مصباحی ہر اعتبار سے ملی سرمائے کی حیثیت رکھتے ہیں میں نے موصوف کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھا اور پرکھا ہے۔ ان کا دل ہر وقت ملت کے غم میں دھڑکتا رہتا ہے۔ ان کے نزدیک امام احمد رضا کی ذات ہی اتحاد و محبت کی علامت ہے۔ فکر کی پاکیزگی، تحریر میں لطافت اور طبعی اعتبار سے بڑی سادگی کے حامل ہیں۔

”امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ“ آپ کی تازہ ترین تالیف ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد جہاں آپ کے ایمان و یقین کو تازگی ملے گی وہیں امام احمد رضا پر لگائے گئے بے جا الزامات کے پردے چاک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور عقیدے کی کائنات میں گل و لالہ کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولف کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں اور دارین میں ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو پیغام رضا کی بڑے پیمانے پر اشاعت کے ذوق لطیف سے نوازے۔ آمین بجاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ولادت باکرامت: امام احمد رضا کی ولادت ۱۰ شوال المکرم ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۳ جون ۱۸۵۶ء روز شنبہ ظہر کے وقت شربریلی شریف۔ محلہ جسولی میں ہوئی۔ خود امام احمد رضا نے مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے اپنا سن ولادت استخراج فرمایا:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۖ
وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ (کنز الایمان)

آپ کا پیدائشی نام محمد ہے اور تاریخ نام المختار ہے ۱۲۷۲ھ جد امجد مولینا نقی علی خاں علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۶ء) نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا جس نام سے آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے اپنے اسم شریف کے ساتھ عبدالمصطفیٰ کا اضافہ فرمایا چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ
تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے اے

خاندانی نجابت: آپ کا خاندان فضل و کرامت، امارت و سیادت اور علمی و فکری عبقریت میں شروع سے ہی یگانہ روزگار رہا۔ آپ کے والد گرامی امام المتکلمین مجاہد آزادی حضرت علامہ شاہ نقی علی خاں علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کثیرہ، بلند پایہ فقیہ اور نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت علامہ شاہ رضا علی خاں قدس سرہ درویش کامل اور مرجع خلائق بزرگ تھے۔ حضرت حافظ شاہ کاظم علی خاں رحمۃ اللہ علیہ فوج کے سپہ سالار اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ایسے آغوش علم و

کرم فضل و کمال اور گوارہ شعور و ادب میں آپ کی تربیت ہوئی۔

ذہانت و فطانت : آپ چھن ہی سے اعلیٰ ذہن، بلند دماغ اور زبردست قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں۔

میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر ہمہ کر دیتا جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے احمد میاں یہ تو کو تم آدمی ہو یا جن مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم یاد کرتے دیر نہیں لگتی..... ۲۰

آپ نے چار سال کی عمر شریف میں ناظرہ قرآن عظیم مکمل فرمالیا۔ ۶ سال کی عمر میں عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نہایت بلیغ اور موثر خطاب فرمایا اور گیارہ سال کی عمر میں ہدایۃ النوح کی عربی میں شرح لکھی۔ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔

فراغت : ۱۳ برس ۱۰ ماہ ۵ دن کی عمر میں ۱۲ شعبان المعظم ۱۲۸۶ھ میں سند فراغت سے نوازے گئے..... ۳۰۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

”وسط شعبان ۱۲۸۶ھ / ۱۸۶۹ء میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور اس وقت میں ۱۳ سال ۱۰ ماہ ۵ دن کا تھا اور اسی تاریخ سے مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میں احکام شریعہ کی طرف متوجہ ہوا“..... ۳۱۔

قوت حافظہ : ایک مرتبہ آپ اپنی بھیت شریف تشریف لے گئے اور حضرت

مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے۔ اثنائے گفتگو میں عقود الدریہ فی تنقیح فتاویٰ الحامدیہ کا ذکر چل پڑا۔ حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب خانے میں ہے اعلیٰ حضرت نے اس وقت تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور یہ بھی فرمایا کہ ملاحظہ فرمانے کے بعد بھیج دیجئے گا۔ آپ کے یہاں کتابیں بہت ہیں اور میرے پاس تو گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتاویٰ دیا کرتا ہوں۔

اعلیٰ حضرت کو اسی دن آتا تھا مگر ایک جاں نثار کی دعوت پر رکنا پڑا آپ نے رات میں عقود الدریہ کی دو ضخیم جلدوں کا مطالعہ فرمایا دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد پہلی کا قصد فرمایا لیکن عقود الدریہ کو سامان میں رکھنے کے بجائے محدث صاحب کے یہاں واپس بھیج دی۔ اس واقعہ کے بعد محدث صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ کیا میری اتنی سی گزارش پر کہ مطالعہ کے بعد میری کتاب واپس فرمادیں گے۔ آپ کو اتنا مال ہوا کہ آپ کتاب ابھی واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل جانا ہوتا تو بریلی لے جاتا لیکن جب رک گیا تو شب میں اور صبح میں پوری کتاب دیکھ ڈالی اب لے جانے کی ضرورت نہیں۔ محدث صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ کا دیکھ لینا کافی ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین سال تک جہاں کی عبارت چاہوں گا فتاویٰ میں لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء اللہ عمر بھر کے لئے محفوظ ہو گیا..... ۵۰۔

وسعت علمی : ایک مرتبہ شہر بریلی میں ۱۲ ربیع الاول شریف کے عظیم الشان

جلسہ میں اعلیٰ حضرت نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اور اسم اللہ پر مسلسل کئی گھنٹے ایسی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ السلام کے جوہ و نوال، جاہ و جلال اور حسن و کمال کے دریا منڈنے لگے آپ نے انہیں دو لفظوں باء جارہ اور اسم اللہ خالص علمی روش پر فضائل رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایسی باتیں بیان فرمائیں جس سے اہل علم کے بھی کان نا آشنا تھے..... ۷۶۔

ایک بار حضرت مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ کے عرس میں بدایوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سورہ الضحیٰ پر صبح نو بجے سے ۱۲ بجے تک مسلسل تین گھنٹے تقریر فرمائی یہ واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریر خالص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تھی۔

پھر اسی مجلس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ الضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر ۸۰ جز تک لکھ کر چھوڑ دیا کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھوں۔

فقہی عمق پریت : جدید تحقیق کی روشنی میں آپ کو اکٹھ علوم و فنون پر کمال درک اور ملاحظہ تامہ حاصل تھا آپ کی فکری عمق پریت، علمی وجاہت، فقہی بصیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذہن، قلمی باغین اور خداداد شوکت و جلالت کو اپنے اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے ڈاکٹر اقبال لاہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا ہے۔

وہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے۔ فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے

اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور پاک و ہند کے کیسے تابغہ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ ہم شکل ملے گا ان کے فتاویٰ ان کی ذہانت و فطانت، جودت طبع، کمال فقاہت اور علوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد عدل ہیں..... ۷۸۔

مولوی عبدالحی لکھنوی نے یوں لکھا ہے :

بندر نظیرہ فی الاطلاع علی الفقہ الحنفی و جزئیاتہ -
یسی فقہ حنفی اور اس کے جزئیات میں جو ان کو عبور حاصل تھا اس کی نظیر شاید کہیں ملے..... ۷۹۔

مولوی ابوالحسن علی میاں ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیا ہے :
حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے اور علامہ حرمین نے بعض سوالات کئے تو ان کے جواب بھی تحریر کئے متون فقہ اور اختلافی مسائل پر ان کی ہمہ گیر معلومات، سرعت تحریر اور ذہانت دیکھ کر سب کے سب حیران و ششدر رہ گئے..... ۸۰۔

بیعت و ارادت : امام الفضلاء بدر الکملاء، قدوة العارفین، سید السالکین خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہے، بیعت ہونے کا واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے حضرت مولانا شاہ حسنین رضا ان

استاذ من حضرت علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیرت اعلیٰ حضرت میں رقمطراز ہیں۔

ایک دن دوپہر کو اعلیٰ حضرت قبلہ روتے روتے سو گئے خواب میں اپنے دادا جان حضرت مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب علیہ الرحمہ کو دیکھا وہ تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو تمہارے اس درد کی دوا کرے گا چنانچہ اس واقعہ کے دوسرے یا تیسرے روز تاج الخول حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ مارہرہ شریف لے جا کر حضرت شاہ آل رسول قدس سرہ سے مرید کرادیا حضرت خاتم الاکابر قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے ”آئیے ہم تو کئی دن سے آپ کے انتظار میں تھے“ مرشد برحق کی بے انتہا نوازشوں کو دیکھ کر دیگر مریدوں کو حیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدس خاتم الاکابر نے فرمایا یہ دونوں باپ بیٹے صاف دل لے کر آئے تھے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی جو نسبت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے مولانا احمد رضا خاں صاحب کی بیعت پر فخر ہے۔ حضرت مولانا عنایت محمد غوری رضوی فیروز پوری اپنے ایک مضمون میں تحریر

فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حضرت امام العارفین مولانا سید شاہ آل رسول قادری مارہروی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر خدائے بزرگ دیر تر مجھ سے فرمائے گا کہ میرے واسطے تو کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا..... ۱۱۔

تجدیدی کارنامے : آپ نے اپنی شوکت علمی اور طہارت فکری کے ذریعہ احیائے دین، اشاعت اسلام، البلاغ حق اور دعوت الی اللہ کا جو زریں کارنامہ انجام دیا ہے وہ یقیناً بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے سے متاثر ہو کر آپ کے علمی بعثت کے آستانے پر سجد نیاز لٹاتے ہوئے محافظ کتب الحرم شیخ اسماعیل غلیل کی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں۔

بل اقول لو قبل فی حقہ انہ مجدد هذا لقرن لکان حق و صدق..... ۱۲۔

ترجمہ: بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک یہ بات سچ اور صحیح ہے الغرض عرب و عجم کا گوشہ گوشہ آپ کی دینی خدمات اور تجدیدی کارناموں کا معترف ہے اور الحمد للہ آج بھی آپ کے علم و دراست کی ضیاء باری، فکر و تحقیق کی پاکیزگی اور طہنہ فضل و کمال کی چاندنی ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔

سرور کونین محمد عربی ﷺ کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ

یبعث لهذه الامۃ علیہ راس کل ماتۃ سنة من یجدد

لہا دینہا..... ۱۳۰

یعنی پروردگار عالم ہر سو سال کے بعد امت کے لئے مجدد مبعوث فرماتا ہے جو اس مقدس دین کو زندہ کرتا ہے۔ فرسودہ مراسم اور بدعتوں کی آلودگیوں کو ختم کر کے شریعت مقدسہ کے پاکیزہ اصول سے امت کو روشناس کراتا ہے اور خود اس کے نقوش قدم گم گشتگان راہ کے لئے خط مستقیم اور جادۂ حیات بن جاتے ہیں۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کا لمحہ لمحہ اس حدیث مبارکہ کا کامل ترجمان ہے۔ فکر و عمل سے لے کر زبان و قلم تک زندگی کی ہر ادا اور حیات کی ہر روش اپنے دامن میں اتباع شریعت کی چاشنی، احیاء سنت کی دکنشی، تجدید دین کی تازگی اور عشق رسالت پناہی کی درباری کے نہ جانے کتنے ناز و انداز لئے ہوئے ہے۔

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جا است

میں نے آپ کے سامنے امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا ہے تاکہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت اور خدا داد شوکت کے منکر ہیں انھیں حق و صداقت کی راہ نظر آجائے۔

اصلاح معاشرہ کے تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ نے کتنا انقلابی اور کلیدی

رول ادا کیا ہے اسے ان کی تحریر کے آئینے میں پڑھنے سے پہلے آئیے ان کی سیرت و کردار کے بہتے ہوئے اس صاف و شفاف چشمہ کا سراغ لگائیں جس کے کنارے بیٹھ کر اگر کسی نے ایک جرعمہ بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اور جس کے نوک قلم سے نکل کر صفحہ قرطاس پر مچلنے والا حرف حرف افکار و نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سر مستی کی ایسی ضیائیں بکھیر گیا جس کے اجالے میں ہر حق پسند، منصف دماغ اور گم گشتہ راہ کے لئے سفر کرنا نہایت آسان ہو گیا۔

ان کا سایہ اک تجلی، ان کا نقش پا چراغ

وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

آج بے پردگی اور حیاء سوزی کا بھیانک اور زہریلا اثر جس تیزی کے ساتھ مسلم سماج کے اندر سرایت کر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ کتنا بزدست المیہ ہے کہ مسلم خواتین شریعت اور قرآنی ارشادات سے دور ہو کر آزادانہ طرز حیات اور غیر اسلامی روش کو اپنی زندگی میں داخل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہو ٹلوں، پارکوں اور تفریح گاہوں سے لے کر مقدس مقامات تک ایسی غیرت فروشی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہے۔ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ سے جب یہ

سوال کیا گیا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں:

غنیۃ میں ہے یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے

یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی

ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب مزار کی طرف سے۔ جس

وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم قریب و اجبات ہے اور قرآن نے اسے مغفرت ذنوب کا تریاق بتایا ہے..... ۱۴۔

اولیاء کرام کے مقدس آستانے جہاں ہر لمحہ رحمت الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ہر پل سعادت و برکات کی خیرات تقسیم ہوتی ہے جب ایسے با عظمت اور پاکیزہ مقامات پر عورتوں کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جو شیطانوں، اوباشوں اور شر پسندوں کی آماجگاہ ہوں وہاں عورتوں کا بے حجابانہ گھومنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر براہوئی تہذیب اور فیشن پرستی کا کہ آج ہر خاص و عام اس مملکت مرض میں مبتلا ہیں۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریرات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے اور ہر اس فعل سے اپنے آپ کو روکتے جو خدا و رسول کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہے۔ نیز مخالفین کی جماعت جو الزام تراشی کرتی ہے کہ امام احمد رضا نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت دی ہے اسے تعصب و جنگ نظری، بہتان تراشی اور افتراء پردازی کی سطح سے اوپر اٹھ کر امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی پر نور تحریر کا مطالعہ کرنا چاہئے ورنہ پھر داور محشر کے حضور جواب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

آج کل بے شرع پیروں کا سیلاب آگیا ہے جسے دیکھو کا کل بڑھائے، انگلیوں میں انگوٹھیاں سجائے، رنگین کپڑے پہنے پیری مریدی کی دکان لگائے بیٹھا

ہے۔ یہ وقت کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ بیعت و ارادت اور رشد و ہدایت نیابت رسالت کا اہم باب ہے مگر کچھ ناعاقبت اندیش اور ان پڑھ پیروں نے اس پاکیزہ رشتہ کو بھی کمائی کا بہترین ذریعہ اور حصول زر کا اچھا وسیلہ بنا رکھا ہے نہ صوم و صلوة کی پابندی، نہ احکام شرعیہ پر عمل، نہ اسلامی اصول سے واقفیت اور نہ ہی علم و آگہی سے کوئی تعلق اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھئے تو بڑی بے باکی اور جرأت مندی سے جواب دیتے ہیں کہ شریعت الگ شے ہے اور طریقت الگ۔ امام احمد رضا ایسے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

عمر و کا قول کہ طریقت نام ہے اصول الی اللہ کا محض جنون و جہالت ہے دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریق طریقتہ طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک۔ جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم باطل اور مردود فرما چکا ہے..... ۱۵۔

دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں۔

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں اصلاً باہم کوئی تخالف نہیں اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہ تو زاجاہل ہے اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بد دین۔ شریعت حضور اقدس سید عالم ﷺ کے اقوال ہیں اور طریقت حضور کے افعال، حقیقت

حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ﷺ

..... ۱۶۔

پھر تحریر فرماتے ہیں۔

بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت ولہذا حدیث میں آیا حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا المتعبد بغیر فقہ کا الحمار فی الطاحون بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں..... ۱۷۔

ان تحریروں کو حقائق کے اجالے میں پڑھئے اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ پیر جو شریعت کو بالائے طاق رکھ کر صرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اور شرع کی نظر میں سخت مجرم ہیں یا نہیں لہذا آپ ایسے ہی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے جن کے دامن پر بہار سے اسلامی اور شرعی اصول و ضوابط کی ساری برکتیں دلالت ہوں۔ آج کے اس پر فتن ماحول میں کچھ ایسے پیر بھی ملیں گے جو اپنی مریدوں سے مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دلواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کے غیر شرعی افعال کر گزرنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتی۔ ع شرم نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بیعت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم ﷺ جب مردوں کی

بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے اسی وقت عورتیں بیعت کیلئے حاضر ہوئیں تو حضور سید عالم ﷺ نے توقف فرمایا تو فوراً طائرِ سدرہ یہ آیت پاک لیکر حاضر خدمت ہوئے مبارکہ نازل ہوئی یا ایہا النبی اذا جاءك المومنت ینا یعنك علی ان لا یشرکن بالله شیئاً ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادھن ولا یتاتین بہتان یفترنیہ بین یدیہن وارجلھن ولا یعضیک فی معروف فبایعھن واستغفر لھن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی مروج وادوت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (ترجمہ رضویہ)

حضور رحمت عالم ﷺ نے اس آیت کے بموجب عورتوں کو بھی بیعت کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی اور حضور کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے لمس نہ ہوا..... ۱۸۔

یہ حدیث ان پڑھ اور غیر شرعی پیروں کے لئے تازیانہ عبرت بھی ہے اور چراغِ راہ بھی جو اپنی مریدوں سے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دلواتے ہیں اب امام احمد رضا قدس سرہ کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے :

بے شک غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ و رسول نے حکم دیا (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک پیر مریدہ کا محرم نہیں ہو جاتا نبی ﷺ سے بڑھ کر امت کا پیر کون ہو گا یقیناً وہ ابو الروح ہوتا ہے اگر پیر ہو جانے سے آدمی محرم ہو جایا کرتا تو چاہیے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا..... ۱۹۔

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قرآن و حدیث اور اسلام و سنت کے فیضان اور باطنی عرفان سے محروم سجادگان مزا میر کے ساتھ محفل سماع کا انعقاد اور قوالی کی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھرکتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوب ٹرینگ دیتے ہیں اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ عرس کے لیام میں مرد و عورت کا شاندار مقابلہ ہونے لگا ہے نعوذ باللہ منہ۔ ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنیع سے جہاں اسلام کا تقدس اور شریعت کا وقار مجروح ہو رہا ہے وہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کروٹیں لے رہی ہے امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں :

مزا میر جنہیں مٹانے کے لئے حضور پر نور سید عالم ﷺ تشریف لائے تھے (کما فی الحدیث) مطلقاً حرام ہے..... ۲۰۔

ایسی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنگار ہیں اور ان سب کا گناہ اس عرس کرنے والے اور قوالوں پر ہے اور قوالوں کا

بھی گناہ عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے یا اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے برابر جد اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے برابر جد اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ..... ۲۱۔

مزا میر یعنی آلات لہو و لعب بروجہ واجب بلاشبہ حرام ہیں جن کی حرمت اولیاء و علماء دونوں فریق ہذا کے کلمات عالیہ میں مصرح ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ سادات بہشت برائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارضاء عاکی طرف نسبت محض باطل و افتراء ہے۔

حضرت سید فخر الدین رازی قدس سرہ کہ حضور سیدنا محبوب الہی سلطان الاولیاء نظام الحق والدینا والدین محمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اجلہ خلفاء سے ہیں جنہوں نے خاص عہد کرامت مہد حضور میں بلکہ خود حکم والا مسئلہ سماع میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تالیف فرمایا

اپنے اسی رسالہ میں فرماتے ہیں سمع بعض المغلوبین
السماع مع المزامیر ہی غلبات الشوق واما سماع
مشائخنا رضي الله تعالى عنهم فبري عن هذه
التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار
المشعرة من كمال صنعته الله تعالى.

یعنی بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ شوق و حال میں
سماع مع مزامیر سنا اور ہمارے پیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ
عنہم کا سنا اس تہمت سے بری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز
ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل و علا سے خبر
دیتے ہیں فوائد الفوائد شریف میں تصریح فرمائی ہے کہ
مزامیر حرام است، حضور ممدوح کے یہ ارشادات عالیہ
ہمارے لئے سند کافی اور ان اہل ہوا و ہوس مدعیان چشت
پر حجت دانی..... ۲۲۔

اب آئیے ذرا مجلس سماع میں قوالی سے متعلق سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی
پیشوا عطاءے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے
محبوب مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین مختیار کاکی علیہ الرحمہ کا ایمان افروز واقعہ
سماعت فرمائے۔

حضرت مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر مجلس
سماع میں قوالی ہو رہی تھی حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے پیران سلسلہ میں ہیں باہر ہی مجلس
سماع کے تشریف فرما تھے ایک صاحب صالحین سے آپ
کے پاس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلے
حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم
جاننے والے ہو مواجہ اقدس میں حاضر ہو اگر حضرت راضی
ہوں میں ابھی چلتا ہوں انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا
دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں
کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ”ایں بد مختاں وقت مارا
پریشان کردہ اند“ واپس آئے اور قبل اس کے عرض کریں،
فرمایا آپ نے دیکھا..... ۲۳۔

خدا را تعالیٰ سے بتائیے کہ محفل سماع میں قوالوں سے اس قدر حضرت نے
اپنی ناراضگی اور پریشانی کا اظہار فرمایا تو پھر سماع مع مزامیر سے ان پاک ہستیوں کی
روح کس قدر بے چین ہوں گی لیکن براہو ان ہو او ہوس کے پجاریوں کا کہ اس قدر
دلائل و شواہد کے باوجود سماع مع مزامیر کے جواز پر قائم رہنا اور اکابر سلسلہ چشت اہل
بہشت کی طرف ان قبیح حرکتوں کی نسبت کر کے خالص بہتان اور ظلمات نفس کو
فروغ ہی دینا تو ہے۔

مسلمان اسلامی روایات سے ہٹ کر شادیوں میں بڑے فخر کے ساتھ ناچ
گانے، ڈھول باجے، آتش بازی اور پٹاخے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس بے ہودہ رسم
میں ہر خاص و عام مبتلاء ہے۔ یہ کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغو

رسموں کو بجالانے میں مسلمان اپنی شان و عظمت سمجھتا ہے مگر اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس ناجائز رسموں کے پیچھے عیسائیت و یہودیت کی پوری مشنری لگی ہوئی ہے کس طرح ان کے سینے سے جذبہ حب رسول، مذہبی وقار، اسلامی روح اور شرعی رنگ و آہنگ کو فنا کر دیا جائے اور انہیں نئی روشنی اور مغربی تہذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آج شادیوں میں جو غیر اسلامی کاموں کے لئے روپے کو خرچ کیا جا رہا ہے اس سے مذہبی تقدس تو مجروح ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف اس سے تضييع مال اور اسراف سے مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی زندگی میں جو بحر ان ہے وہ کسی سے مخفی نہیں کاش کہ! سنجیدہ اور دانشور طبقہ ٹھنڈے دل سے اس اہم مسئلے پر غور و خوض کر کے کوئی ٹھوس اور مثبت اقدام کر تا اور اسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیاد رکھتا جس سے قوم مسلم کا وہ سرمایہ جو غلط راہوں پر خرچ ہو رہا ہے اس کی صحیح روک تھام ہو سکے۔ امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔

یہ گانے باجے کہ ان بلاد میں معمول اور رائج ہیں بلاشبہ ممنوع و ناجائز ہیں۔ خصوصاً وہ ملعون و ناپاک رسم کہ بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہنود ملائین بے بہود سے سیکھی۔ یعنی فحش گالیوں کے گیت گوانا اور مجلس کے حاضرین و حضرات کو لچھے دار سنا، سمیدھیانہ کی عقیف پاکدامن عورتوں کو الفاظ زنا سے تعبیر کرنا کرانا۔ خصوصاً ان ملعون بے حیا رسم کا مجمع زنان میں ہونا، ان کا اس ناپاک فاحشہ

حرکت پر ہنسنا قہقہے اڑانا، اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب کچھ سنا کر بد لحاظ بے حیا بے غیرت خبیث بے حمیت مردوں کو مشہدین کو جائز رکھنا۔ کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ سچ ایک آدھ بار جھڑک دینا مگر ہندوہست قطعی نہ کرنا یہ شنیع گندی مردود رسم ہے جس پر صدہا لعنتیں اللہ عز و جل کی اترتی ہیں اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے سب فاجر و فاسق مرتکب کبائر مستحق غضب جبار و عذاب نادر ہیں۔
والعیاذ باللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین..... ۲۲

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

جن شادیوں میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں شریک نہ ہوں۔ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برأت میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا حرام ہے کہ اس میں تضييع مال ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا۔ قل اللہ تعالیٰ ولا تبذر و تبذیرا ان المبذرين كانوا اخوان الشیطن و كان الشیطن لربہ کفور..... ۲۵

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فضول نہ اڑا ہے شک اڑانے والے

شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ (کنز الایمان)

عوام الناس میں یہ توہم پرستی، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے پائے جاتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید رہتے ہیں اور فلاں کے جسم پر فلاں بزرگ آئے ہیں۔ اور ہر جمعرات کو اس درخت کے پاس جا کر شیرینی وغیرہ فاتحہ دلاتے ہیں لوہان اگر بستی سلگاتے اور ہار و پھول لٹکاتے ہیں۔ یعنی شہدائے کرام اور اولیاء اللہ کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں تو وہ درختوں اور انسانی جسموں کو اپنی پناہ گاہ بنانے لگے ہیں۔ لاجول ولاقوہ۔ شہدائے عظام اور اولیائے فحام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کی رفعت شان اور عظمت مکان کی شہادت قرآن پیش کر رہا ہے اور ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ان کی کھلی توہین اور گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یوں ہی عورتیں شادی کے موقع سے مسجدوں میں جا کر طاق بھرتی ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

یہ سب واہیات، خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطلانات ہے ان کا ازالہ لازم ہے..... ۲۶۔

یہ سب رسوم جمالت و حماقت و ممنوعات بے ہودہ ہیں مگر بت پرستی اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہاں گنہگار و مبتدع ہیں..... ۲۷۔

لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے اسی طرح ۳، ۱۳، ۲۳ اور ۸، ۱۸، ۲۸ کی تاریخوں اور منجانبہ اور چہار

شنبہ کے ایام میں شادیاں نہیں کرتے کیوں کہ ان تاریخوں، مہینوں اور دنوں میں شادی مسرت کے بجائے کلفت کا پیام لاتی ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

نکاح کسی مہینے میں منع نہیں یہ غلط مشہور ہے..... ۲۸۔

یہ سب باطل اور بے اصل ہے..... ۲۹۔

آج کچھ لوگ اپنے گھروں میں پیر کی تصویر سجا کر رکھتے ہیں اور ہر روز اس پر ہار پھول پیش کرتے ہیں۔ حضور سید عالم ﷺ کا فرمان گرامی ہے۔ لا تدخل الملائکہ بیتاً فیہ کلب ولا صورة..... ۳۰۔

”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتاب یا جاندار کی تصویر ہو“ مگر عقیدت کے بہاو میں انسان ہر ہودہ کام کر بیٹھتا ہے جو شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام اور ناپسندیدہ و مردود ہے۔ امام احمد رضا تحریر فرماتے ہیں۔

حضور سید عالم ﷺ نے ذی روح کی تصویر بنانا، بنوانا، اعزازا اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد کیں۔ اور ان کے دور کرنے اور مٹانے کا حکم دیا۔

حدیث اس بارے میں حد تو اتنی پر ہیں یہاں چند مذکور ہوتی ہیں۔ صحیحین و مسند امام احمد میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے

ہیں کل مصور فی النار یجعل اللہ لہ بكل صورة صورہا نفساً فتعذبہ فی جہنم۔ ہر مصور جہنم میں ہے

اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی ایک مخلوق

پیدا کرے گا کہ جو جہنم میں اسے عذاب کرے گی۔ انھیں
 میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
 رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ان اشد الناس عذاباً يوم
 القيامة المصورون۔ بے شک نہایت سخت عذاب روز
 قیامت تصویر بنانے والوں پر ہے صحیحین و سنن نسائی
 میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے
 رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ان الذين يصنعون هذه
 الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتهم
 بے شک یہ جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب کے
 جائے گے ان سے کہا جائے گا یہ صورتیں جو تم نے بنائی
 تھیں ان میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن
 عمر اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 اور نیز اسی میں حضرت ام المؤمنین میمونہ اور مسند امام محمد
 میں مسند صحیح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ الصلوٰۃ
 والتسلیم نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کی انا لاند خل بیتا
 فيه كلب وصورة۔ ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں جاتے
 جس میں کتیا تصویر ہو۔

کعبہ میں جو تصویریں تھیں حضور اقدس ﷺ نے

امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
 کہ انھیں مٹا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام
 چادریں اتار اتار کر اتناں حکم اقدس میں سرگرم ہوئے زم
 زم شریف سے ڈول کے ڈول بھر کر آتے اور کعبہ کو اندر باہر
 سے دھویا جاتا۔ کپڑے بھگو بھگو کر تصویریں مٹائی جاتیں
 یہاں تک کہ وہ مشرکوں کے آثار سب دھو کر مٹا دیئے جب
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اب کوئی نشان باقی نہ رہا اس
 وقت اندر رونق افروز ہوئے اتفاق سے بعض تصاویر مثل
 تصویر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا نشان باقی رہ گیا
 تھا پھر نظر فرمائی تو حضرت مریم کی تصویر بھی صاف نہ
 دھلی تھی حضور پر نور ﷺ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے ایک ڈول پانی منگا کر بعض نفیس کپڑا اتار کر ان کے
 منانے میں شرکت فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ کی مار ان تصویر
 بنانے والوں پر..... ۳۱۔

قارئین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام جو مخلوق میں
 سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہیں مگر سرور عالم ﷺ نے ان کی تصویر کو کعبہ
 شریف سے مٹائی تو پھر پیروں کی تصویروں کو اپنے گھروں میں سجانا اور بطور تبرک رکھنا
 گمراہی نہیں تو اور کیا ہے پروردگار عالم ہر مسلمان کو ان غلط حرکتوں سے محفوظ رکھے۔
 محرم الحرام کے موقع سے ملک کے اکثر حصوں میں تعزیہ بنایا جاتا ہے اور

کہیں ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔ اور معاذ اللہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے اس پر پھول، ہار، چادر وغیرہ ڈالتے ہیں۔ منتیں مانتے ہیں شیرینی، مالیدہ، شربت پر نیاز دلاتے ہیں۔ پیسہ اور لڈو لٹاتے ہیں۔ پھر دسویں محرم کو اس تعزیہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان خرافات سے متعلق امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ کی صحیح نقل بنا کر بیت تبرک مکان میں رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصور مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز اور ایسی چیزیں کے معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تماشال بیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز جیسے صد ہا سال سے طبقہ طبقہ ائمہ دین علمائے معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین ﷺ کے نقشے بنائے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں جسے اشتباہ ہو امام علامہ تلمسانی کی فتح المعال وغیرہ مطالعہ کرے۔ مگر جمال بے خرد نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صد ہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل

ملفوظ نہ رہی ہر جگہ ننٹی تراشیں نئی گڑھت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت پھر کسی میں پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بے ہودہ طمطراق پھر کوچہ کوچہ دشت بہ دشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی شور افگنی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے کوئی ان مایہ بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا منتیں مانتا ہے حاجت روا جانتا ہے پھر باقی تماشے باجے مردوں عورتوں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بے ہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔ غرض عشرہ محرم الحرام کو اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بے ہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریا و تفاخر علانیہ ہوتا ہے پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے۔ روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزق الہی کی بے ادبی ہوتی۔ مال کی اشاعت ہو رہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب بہار

عشرہ کے پھول کھلے تاشے باجے جتے چلے طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم شہوانی میلوں کی پوری رسوم جشن یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حضرات شہدار ضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے جنازے ہیں کچھ نوچ ناچ باقی توڑ تازہ دفن کردئے یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جداگانہ رہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیہم الرضوان والثناء کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے۔ اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے آمین۔ اب کہ تعزیه داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان المقام کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اقتصار کرتے تو اس قدر خوب و محبوب تھا۔ اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضہ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز پر قناعت کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعت غم اور تصنع الم و نوحہ زنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیه سے بچتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگر اب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیه داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ

اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لئے ابتلائے بدعات کا اندیشہ ہے لہذا روضہ اقدس کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے بلکہ کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تبرک بے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے..... ۳۲۔ دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں۔

تعزیه رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیہ ہے اس کا ہٹنا دیکھنا جائز نہیں اور تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے آمین..... ۳۳۔

محرم الحرام کی مجلسوں میں غیر مستند کتابوں کے واقعات اور شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں اور ناخواندہ مقرر عوام کو خوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ شہادت نامے نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرو پا سے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت نامہ ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں وہ مطلقاً حرام و ناجائز ہے خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسے خرافات کو متضمن ہو جس سے عوام کے عقائد میں زلل آئے کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام جتہ الاسلام محمد محمد

معاشرہ بھی ملوث ہے اور اس بد چلنی بے حس اور بد اخلاقی کو ترقی اور نئی روشنی کا نام دیا جاتا ہے۔ مگر سچ بتائیے یہ ترقی ہے یا تنزلی، یہ روشنی ہے یا تاریکی آئے پڑھئے امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں۔

حرام ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبهین من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال اللہ کی لعنت ان مردوں پر کہ کسی بات میں عورتوں سے مشابہت پیدا کریں اور ان عورتوں پر کہ مردوں سے۔ ایک عورت مردوں کی طرح کمان کا ندھے پر لٹکائے جاتی تھی اسے دیکھ کر یہ فرمایا۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی گئی کہ ایک عورت مردانہ خود پہنتی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حنت فرمائی ہے اس عورت پر کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے۔ کمان اجزائے بدن نہیں جب ان میں مشابہت پر لعنت فرمائی تو بال اجزائے بدن ہیں ان میں مشابہت کس درجہ سخت تر ہوگی۔ لہذا عورت کو حرام ہے کہ اپنے بال تراشے کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے یوہیں مردوں کو حرام ہے کہ اپنے بال عورتوں کی طرح بڑھائیں اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام و موجب لعنت ہے..... ۳۷

آج کا مسلمان فیشن پرستی میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اپنے مذہبی شعار کو

غزالی قدس سرہ وغیرہ ائمہ کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے..... ۳۴

ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

کتب شہادت جو آج کل رائج ہیں اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پر مشتمل ہیں یوہیں مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ و حرام ہے حدیث میں ہے نہی رسول اللہ ﷺ عن المراثی۔ رسول اللہ ﷺ نے مرثیوں سے منع فرمایا..... ۳۵

آج معاشرہ میں یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیترا لڑکا پیدا ہو تو لوگ اسے نحوست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پریشانی کا باعث بتاتے ہیں۔ اور اگر تیتری لڑکی ہو تو اسے فال نیک اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

یہ محض باطل، زنا نے اوہام اور ہندوانہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے..... ۳۶

قلم سے معاشرے میں جہاں اخلاقی بے راہ روی اور بے شمار بد اعمالیاں پیدا ہو گئیں ہیں وہیں یہ لعنت بھی بری طرح گھر کر گئی ہے کہ مرد عورتوں کا لباس پہننے لگے ہیں اور عورتیں مردوں سا لباس استعمال کرنے لگی ہیں۔ مردوں نے عورتوں کی طرح کا ندھے سے نیچے لمبے لمبے بال رکھنا شروع کر دیئے ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھنے لگی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسلم

خود اپنے ہاتھوں دفن کر رہا ہے۔ داڑھی اسلام کا شعار اور نبی محترم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت جلیلہ و عادت کریمہ تھی مگر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس سنت سے محروم نظر آ رہا ہے۔ مگر یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے مذہبی شعار سے گریزاں ہیں اور غیروں کی تہذیب کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ہی فخر و انبساط اور مسرت و شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب اور حضور سید عالم ﷺ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعار سے ہے اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور کفار کا شعار۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں عشر من الفطرہ قص الشارب واعف باللحیہ الحدیث۔ یعنی دس چیزیں سنت قدیم انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہیں ان میں سے مونچھیں کم کرنا اور داڑھی حد شرع تک چھوڑ دینا رواہ مسلم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح میں فرماتے ہیں حلق کردن لحيہ حرام است۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں خالفوا المشركين واوفوا للحي واعفوا الشوارب۔ مشرکین سے مخالفت کرو داڑھیاں پوری اور مونچھیں کم کر دو اور بعض احادیث میں وارد مونچھیں کم کر لو اور داڑھیاں چھوڑ دو اور مجوسی کی شکل

نہ نماز۔ سنت سینہ رسول ﷺ کو ترک اور مشرکین اور مجوس کی رسم اختیار کرنا مسلمان کامل کا کام نہیں علاوہ بریں اس میں تغیر خلقت خدا طریق ممنوع ہے..... ۳۸۔

آج بعض نا عاقبت اندیش یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ داڑھی رکھ کر بھی بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ غلط کام کرتے ہیں اور نماز روزے سے کوسوں دور ہیں تو پھر ایسی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ! اس سے تو بہتر ہے کہ اس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آراستہ ہو اور نماز و روزہ کی پابندی کرتا ہو۔ امام احمد رضا قدس سرہ یہ فرماتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اصلاح باطن آرائش ظاہر سے اہم تر مگر اس کے ساتھ افساد ظاہر وار کتاب محرمات و ممنوعات کی کس نے اجازت دی۔ تقیل حکم شرع و اجاع سنت شارع کہ داڑھی بڑھانے اور نیچی رکھنے میں پائی جاتی ہے وہ اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہے کہ باطن میرا آراستہ ہے اگر فی الواقع باطن اس کا زیور صلاح سے مزین اور حکم خدا اور سول منقاد ہوتا تو اجاع سنت چھوڑ کر شعار کفر و شرک و بدعت کی پیروی پسند نہ کرتا اور حکم شرع سکر سر جھکاتا اپنے فعل شنیع پر مصر نہ ہوتا..... ۳۹۔

آج کثرت سے لوگ اپنی داڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعمال کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلاء رہتے ہیں کہ خضاب لگانے سے میں

خبر و اور جو ان نظر آتا ہوئی مگر شاید وہ اس بات سے یہ خبر ہیں کہ چہرے کی شکنیں ان کی کھولت و بوڑھا پن کا اعلان کر رہی ہیں آئیے ذرا امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر پر تنویر کا مطالعہ کیجئے۔

صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے ہواً مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معتبرہ ناظرین۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم ﷺ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی خالص سپید دیکھ کر ارشاد فرمایا غیر واہذا بشی واحبتوا السواد۔ اس سپیدی کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں غیر والشیب ولا تفرّبوا السواد۔ سپیدی تبدیل کرو اور سیاہ رنگ کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضور والا ﷺ فرماتے ہیں یكون قوم فی آخر الزمان یخضون بهذا السواد کحو اصل الحمام لا یجدون رائحة الجنة۔ آخر زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے وہ جنت کی بو نہ سونگھیں گے۔ جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر سیاہ و نیلگوں ہوتے ہیں نبی ﷺ نے ان کے بالوں اور داڑھیوں کو

ان سے تشبیہ دی ان سعد عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرسل راوی سید عالم ﷺ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا ینظر الی من ینخضب بالسواد یوم القیامة۔ جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ نیز کبیر طبرانی میں بسند حسن حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور پر نور ﷺ فرماتے ہیں من مثل بالشعر فلیس له عند الله خلاق۔ جو بالوں کی ہیئت بگاڑے اللہ کے یہاں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہیئات بگاڑنا یہ کہ داڑھی مونڈھے یا سیاہ خضاب کرے۔ ان سعد طبقات میں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ ﷺ عن الخضاب بالسواد۔ رسول اللہ ﷺ نے سیاہ خضاب سے منع فرمایا۔ افسوس کے ذرا سے نفسانی شوق کے لئے آدمی ایسی سختیوں کو گوارا کرے۔ جمہور ائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ہے علماء جب کراہت مطلق بولتے ہیں تو اس سے کراہت تحریم مراد لیتے ہیں جس کا مرتکب گناہگار و مستحق عذاب نار ہے..... ۴۰۔

اس تو ہم پرستی کے دور میں جہاں بہت سے غلط افکار نے فروغ پایا انھیں میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کاہنوں اور جو تشیوں سے ہاتھ دکھلا کر اپنے اچھے برے

تقدیر کو دریافت کرتے ہیں اور اس مرض میں عورتیں زیادہ مبتلاء ہیں دیکھئے امام احمد رضا قدس سرہ کیا تحریر فرماتے ہیں۔

کاہنوں اور جو تشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے اسی کو حدیث میں فرمایا فقد کفر مما نزل علی محمد ﷺ اور اگر بطور اعتقاد فیض نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اس کو حدیث میں فرمایا لم یقبل اللہ لہ صلاة اربعین صباحاً۔ اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر بطور ہزل و استہزاء تو عبث و مکروہ و حماقت ہے ہاں اگر بغرض تعجیز ہو تو حرج نہیں..... ۴۱۔

آج کچھ لوگ عقیدت میں مزارات کو سجدہ کرتے ہیں اور اسلام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ ہماری شریعت نے غیر اللہ کے لئے سجدہ عبادت کو کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، اسی سلسلہ میں امام احمد رضا نے الزکیۃ الزکیۃ لتحریم سجود التحیۃ کے نام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قرآنی، چالیس احادیث مقدسہ اور تقریباً ڈیڑھ سو نصوص فقیہ سے یہ ثابت فرمایا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے حرام۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع

فرمان! جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت عز جلالہ کے سوا کسی کے لئے نہیں۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر مبین ہے اور سجدہ تحیت حرام و گناہ کبیرہ بالیقین۔ اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفر صوری پر محمول..... ۴۲۔

صحابہ کرام نے حضور سے سجدہ تحیت کی اجازت چاہی اس پر ارشاد ہوا کیا تمہیں کفر کا حکم دیں۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تحیت ایسی قبیح چیز ایسا سخت حرام ہے جسے کفر سے تعبیر فرمایا جب خود حضور اقدس ﷺ کے لئے سجدہ تحیت کا ایسا حکم پھر اور دوسرے کا کیا کر..... ۴۳۔

اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ نے چالیس احادیث سے سجدہ تحیت کے حرام ہونے کا ثبوت فراہم فرمایا ہے یہاں پر صرف تین احادیث نقل کرتا ہوں۔

قال جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله اخبرني ما حق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لا مروت المرأة ان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها. ایک عورت نے بارگاہ رسالت علیہ افضل

الصلوة والتحیۃ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ توہر کا عورت پر کیا حق ہے فرمایا اگر کسی بشر کو لائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو فرماتا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے سجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جو اللہ نے اس پر رکھی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی قال دخل النبی ﷺ حائطا فجاء بعیر فسجد له فقالوا هذه بهیمہ لا تعقل سجدت لك ونحن نعقل فنحن احق ان لسجد لك فقال ﷺ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر لو صلح لامرت المراه ان تسجد لزوجهها لماله من الحق عليها۔

حضور اقدس ﷺ ایک باغ میں تشریف لے گئے ایک اونٹ نے حاضر ہو کر حضور کو سجدہ کیا صحابہ نے عرض کی یہ بے عقل چوپایہ ہے اس نے حضور کو سجدہ کیا ہم تو عقل رکھتے ہیں ہمیں زیادہ لائق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے آدمی کو لائق نہیں کہ آدمی کو سجدہ کرے ایسا مناسب ہوتا تو میں عورت کو فرماتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اس کا اس پر ہے۔

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے قال دخل النبی

ﷺ جائطالانصار ومعه ابوبکر وعمر فی رجال من الانصار فی الحائط غنم فسجدن له فقال ابوبکر یا رسول اللہ کنا نحن احق بالسجود لك من هذه الغنم قال انه لا ینبغی فی امتی ان یسجد احد لا حد و لو کان ینبغی ان یسجدا حد لا حد لا مروت المرأة ان تسجد لزوجهها۔

حضور انور ﷺ انصار کے ایک باغ میں تشریف فرمائے صدیق و فاروق اور کچھ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر کاب تھے باغ میں بحریان تھیں انھوں نے حضور کو سجدہ کیا صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ان بحریوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس کے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ فرمایا بے شک میری امت میں نہ چاہئے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے ایسا مناسب ہوتا تو میں عورت کو شوہر کے سجدے کا حکم فرماتا..... ۴۴۔

قبروں پر چراغ بجی جلاتا ایک عام بات ہو چکی ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اسے ضرورت میں شامل کر لیا ہے امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ قبروں کی طرف شمع بے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے..... ۴۵۔

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :

اصل یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے رسول اللہ ﷺ

فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور جو کام دینی فائدے اور دنیاوی نفع جائز سے خالی ہو عبث ہے۔ اور عبث خود مکروہ ہے اس میں مال صرف کرنا اسراف ہے اور اسراف حرام ہے قال اللہ تعالیٰ ولا تسرفون ان اللہ لا یحب

المسرفین..... ۴۶۔

یونہی لوبان اور اگر بقی کے سلسلہ میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

عود، لوبان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز کرنا چاہئے اگرچہ کسی برتن میں ہو اور قریب قبر سلگانا بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لئے جلا کر چلا آئے جو ظاہر منع ہے۔ اسراف اور اضاعت مال۔ میت صالح اس غرنے کے سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی لیسیں، بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں دنیا کے اگر بقی لوبان سے غنی ہے..... ۴۷۔

آج کچھ ناخواندہ حضرات اور علم شریعت اور طریقت سے نا آشنا سجادگان کو یہ دیکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سہارا لے کر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی۔ امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

مزار کا طواف کے محض بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ نہ دینا

چاہئے۔ علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر چنا اور اسی میں ادب زیادہ ہے آستانہ یوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شریعت میں ممانعت نہیں آئی اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتی..... ۴۸۔

آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم ﷺ کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یا ع یا ص یا صل لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ بدعت شنیعہ وہابیوں سے شروع ہوئی ہے اور اب اس مرض میں سنی حضرات بھی مبتلاء ہیں۔

صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ تحریر یا تقریر اور درود شریف لکھنا مومن کیلئے ضروری ہے۔ غل، کھوس، حسد، وقت اور کاغذ کی پخت کی وجہ سے درود شریف کے بجائے مہمل اشارات پر عمل کرنا غار جیوں کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتداء ہوامیہ کے زمانے میں ہوئی۔ محمدیہ نے اسے اپنایا اور وہابیہ نے اسے پروان چڑھایا اور یہ ناپاک حرکت آج بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

درود شریف جو ایک نہایت پاکیزہ اور جامع دعائیہ کلمہ ہے اور وہ زبان و دہن کس قدر مقدس ہیں جن سے درود شریف کا ورد ہوتا ہے اور اس پاکیزہ لب کو کیا کہیے جس کو ملائکہ اپنے نوری پروں سے مس کرتے ہیں اور خوش ہو کر چوم لیتے ہیں ایک مومن کیلئے اس سے بڑھ کر معراج زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی سردار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو قلب و زبان سے درود شریف کے نغمے ابلنے لگیں۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

سب سے پہلے جس شخص نے درود پاک کو کلمہ مہمل میں لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا قانون قدرت بھی یہی تھا کیونکہ جو چور مال کی چوری کرتا ہے اس کے متعلق قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے فَاَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا كَاطِثِي دَعْوَانِ کے ہاتھ۔ اور اس بد نصیب نے مال تو نہیں مال سے قیمتی چیز عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے نزدیک مال کی چوری سے عظمتِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کی سزا سخت سے سخت تر ہے قطع ذریتہ ولم یبق منهم احداً۔ اس کی نسل ہی ختم کر دی گئی۔

امام محی الدین علیہ الرحمہ کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں :

يَكْرَهُ الرَّمْزُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّرْقُمُ بِالْكِتَابَةِ درود شریف کو اشاروں کنایوں بل یکتب بکمالہ ولا یسام منه الا سے لکھنا مکروہ تحریمہ ہے بلکہ پورا حرم خطاً عظیماً درود شریف لکھے کلمہ مہمل سے

درود شریف لکھنا حرام، گناہ عظیم ہے

”مگر حفظ مراتب نہ کنی زندقی“
(تحفہ الصلوٰۃ الی النبی الخیار ص ۶۲-۶۳)

اب آئیے امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر پر تنویر سے دل و نگاہ کو تازگی

دیتے ہیں :

درود شریف کی جگہ جو عوام و جہال صلعم یا ع یا ع یا ص یا صلعم لکھا کرتے ہیں محض مہمل و جمالت ہے القلم احدی

اللسانین جیسے زبان سے درود شریف کے عوض یہ مہمل کلمات کہنا درود کو ادا نہ کرے گا یوں ہی ان مہملات کا لکھنا درود لکھنے کا کام نہ دے گا ایسی کوتاہ قلمی سخت محرومی ہے میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسے لوگ فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذی قيل لهم میں نہ داخل ہوں نام پاک کے ساتھ ہمیشہ پورا درود لکھا جائے ﷺ..... ۴۹۔



کتابیات

- (۱) فقیہ اسلام صفحہ ۱۱۸-۱۱۹ حضرت ڈاکٹر حسن رضا خان پی ایچ ڈی پٹنہ
- (۲) حیات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲-۳ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ
- (۳) سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ ۱۰۵ مولانا بدر الدین صاحب علیہ الرحمہ
- (۴) تذکرہ علمائے اہلسنت صفحہ ۳۹ مفتی شفیق احمد شریفی
- (۵) فقیہ اسلام صفحہ ۱۵۹ ڈاکٹر حسن رضا خان پٹنہ
- (۶) سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ ۱۱۴ مولانا بدر الدین صاحب
- (۷) صفحہ ۱۱۵
- (۸) حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی صفحہ ۱۴ پروفیسر مسعود احمد پاکستان
- (۹) نزہۃ الخواطر مولوی عبدالحی لکھنوی
- (۱۰) مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا خان صفحہ ۲۹
- (۱۱) حیات آل رسول مارہروی صفحہ ۱۹۶ مفتی محمود احمد قادری مظفرپوری
- (۱۲) حسام الحرمین صفحہ ۵۱ امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ
- (۱۳) مشکوٰۃ شریف جلد کتاب العلم صفحہ ۳۶ شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ علیہ الرحمہ
- (۱۴) ملفوظات صفحہ ۲۶۷ جلد ۲ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ
- (۱۵) مقال العرفاء صفحہ ۷ امام احمد رضا قدس سرہ
- (۱۶) فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحہ ۶۰ امام احمد رضا قدس سرہ
- (۱۷) امام احمد رضا دبدعات و منکرات صفحہ ۲۰۹ مولانا یسین اختر مصباحی

- (۱۸) سبع سنابل شریف صفحہ ۱۰۶ میر سید عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ
- (۱۹) مسائل سماع صفحہ ۳۲ امام احمد رضا قدس سرہ
- (۲۰) ۲۴
- (۲۱) احکام شریعت صفحہ ۶۱
- (۲۲) امام احمد رضا دبدعات و منکرات صفحہ ۲۵۹-۲۶۰ مولانا یسین اختر مصباحی
- (۲۳) ملفوظات جلد ۱ صفحہ ۱۱۵-۱۱۶ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ
- (۲۴) فتاویٰ رضویہ جلد دہم صفحہ ۷۷ امام احمد رضا علیہ الرحمہ
- (۲۵) رسالہ ہادی الناس صفحہ ۵
- (۲۶) احکام شریعت صفحہ ۳۲
- (۲۷) فتاویٰ رضویہ جلد ۹ صفحہ ۱۶۳
- (۲۸) ملفوظات صفحہ ۳۶ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ
- (۲۹) فتاویٰ رضویہ جلد دہم صفحہ ۱۷ امام احمد رضا علیہ الرحمہ
- (۳۰) نہم صفحہ ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۶
- (۳۱) نہم صفحہ ۳۵-۳۶
- (۳۲) نہم صفحہ ۱۸۶
- (۳۳) فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحہ ۲۶ امام احمد رضا علیہ الرحمہ
- (۳۴) صفحہ ۸۸
- (۳۵) جلد دوازدہم کتاب فتنی صفحہ ۲۶۷
- (۳۶) جلد نہم صفحہ ۱۸۸-۱۸۹

درود پاک کر فضائل

- جذب القلوب میں مندرجہ ذیل فوائد بیان کئے گئے ہیں۔
- (۱) ایک بار درود پاک پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس درجے بلند ہوتے ہیں۔ دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
- (۲) درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
- (۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور ﷺ کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔
- (۴) درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا ﷺ کے پاس پہنچ جائے گا۔
- (۵) درود پاک پڑھنے والے کے بارے کاموں کے لئے قیامت کے دن حضور ﷺ توی (اشارہ) ہو جائیں گے۔
- (۶) درود پاک پڑھنے والے کی ساری ماسمل ہوتی ہے۔
- (۷) درود پاک پڑھنے والے کو بائیں میں آسانی ملتی ہے۔
- (۸) جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رات سے لہیر لیتے ہیں۔
- (۹) درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا ﷺ کی محبت بڑھتی ہے۔
- (۱۰) رسول اللہ ﷺ خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔
- (۱۱) قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم ﷺ درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔
- (۱۲) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
- (۱۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔
- (۱۴) درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ﷺ! فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔
- (۱۵) درود پاک پڑھنے والے کا گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔

(۳۷)	صفحہ ۲۹
(۳۸)	صفحہ ۳۰
(۳۹)	صفحہ ۳۰-۳۱
(۴۰)	صفحہ ۲۱۳
(۴۱)	صفحہ ۲۱۶
(۴۲)	صفحہ ۲۱۶-۲۱۷
(۴۳)	ابرئق المنار بشموع المزار صفحہ ۹
(۴۴)	احکام شریعت صفحہ ۶۷
(۴۵)	السیدہ الامیہ صفحہ ۷۰
(۴۶)	فتاویٰ رضویہ جلد ۴ صفحہ ۸
(۴۷)	صفحہ ۵۴
(۴۸)	صفحہ ۱۰۷
(۴۹)	احکام شریعت امام احمد رضا قدس سرہ

ترویغ اہلسنت کے لئے..... امام اہلسنت کا دس نکاتی پروگرام

- ۱۔ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔
 - ۲۔ طلبہ کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں۔
 - ۳۔ مدرسوں کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں۔
 - ۴۔ طبائع طلبہ کی جانچ ہو جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔
 - ۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریر اور تقریر اور وعظاً و مناظرۃ اشاعت دین و مذہب کریں۔
 - ۶۔ حمایت مذہب و رد بد مذہبوں میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں۔
 - ۷۔ تصنیف شدہ اور تصنیف شدہ رسائل کو خط و کتابت کے ذریعہ ملک میں مفت تقسیم کئے جائیں۔
 - ۸۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر گمراہ رہیں جہاں جس قسم کے داعی یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کے اطلاع دیں، آپ سرکوبی اعداء کے لئے اپنی فوجیں، میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔
 - ۹۔ جو ہم میں قابل موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں۔
 - ۱۰۔ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیامت و بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔
- حدیث کا ارشاد ہے کہ "آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا" اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و صدوق ﷺ کا کلام ہے۔